



## نبی کریم ﷺ نے ایک مہینہ تک رکوع کے بعد قنوتِ نازل پڑھی جس میں آپ ﷺ بنو سلیم کے قبیلوں کے حق میں بددعا کر رہے تھے

عاصم الاحول رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے دعائے قنوت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ رکوع سے پہلے ہونی چاہیے، میں نے عرض کیا کہ فلاں شخص کا گمان ہے کہ آپ ﷺ نے رکوع کے بعد کہا تھا انس رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ انہوں نے جھوٹ کہا ہے پھر انہوں نے ہم سے یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم ﷺ نے ایک مہینہ تک رکوع کے بعد قنوتِ نازل پڑھی جس میں آپ ﷺ بنو سلیم کے قبیلوں کے حق میں بددعا کر رہے تھے انہوں نے بیان کیا کہ آپ ﷺ نے چالیس یا ستر، راوی کو تعداد میں شک ہے قرآن کے عالم صحابہ کی ایک جماعت مشرکین کی طرف روانہ کیا، لیکن بنو سلیم کے لوگ ان کے آڑے آئے اور ان کو مار ڈالا حالانکہ نبی کریم ﷺ ان کا معاملہ تھا (لیکن انہوں نے دغا دیا) میں نے آپ ﷺ کو کسی معاملہ پر اتنا رنجیدہ اور غمگین نہیں دیکھا جتنا ان صحابہ کی شہادت پر آپ رنجیدہ تھے

[صحیح] [متفق علیہ]

اس حدیث میں قنوتِ نازل کی مشروعیت بیان کی جا رہی ہے اور یہ کہ یہ رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھی جائے گی، کیوں کہ نبی کریم ﷺ نے ایسا ہی کیا تھا جب بنو سلیم نے اپنے معاملہ کو جو ان کے اور مسلمانوں کے مابین طے پایا تھا، توڑنے کوئے ستر یا چالیس قراء صحابہ کو شہید کر دیا، جنہیں رسول اللہ ﷺ نے مشرکین کی طرف (دعوت و تبلیغ کی غرض سے) بھیجا تھا آپ ﷺ نے ایک مہینہ تک رکوع کے بعد قنوتِ نازل پڑھی جس میں ان پر بددعا کرتے رہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/10932>



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

